


FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Appeal No. 503/2024

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	04/04/2024	<p>The appeal of Mst. Shehnila Shaheen presented today by Mr. Khalid Mahmood Advocate. It is fixed for preliminary hearing before touring Single Bench at D.I.Khan on 15.04.2024. Parcha Peshi given to the counsel for the appellant.</p> <p>By the order of Chairman</p> <p> REGISTRAR</p>

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES TRIBUNAL,
PESHAWAR

Service Appeal No. 503/2024

Shehnila Shaheen Daughter Of Rafiqullah R/O Mohallah Ghari Saddozai
DIKhan Physical education teacher Education Department DIKhan.

.....**APPELLANT**

VERSUS

1. District Education Officer (F) DIKhan.
2. Deputy District Education Officer (F) DIKhan.

.....**Respondents**


INDEX

<i>S No.</i>	<i>Description of Documents</i>	<i>Annexure</i>	<i>Page Number</i>
1.	Copy of Grounds of Appeal along with affidavit	---	1-3
2.	CM with affidavit		4-5
3.	copy of appointment order and charge report	A & B	6-8
4.	Copy of application dated 31-08-2020	C	9
5.	Copy of application dated 23-08-2021	D	10
6.	Copy of application dated 02-09-2023	E	11
7.	Copy of departmental appeal dated 28/12/2023	F	12-13
8.	Vakalatnama		14

Yours Humble Appellant
(Mst Shehnila Shaheen)
Through Counsel

Shehnila Shaheen
7

Dated: 2/04/2024


Khalid Mahmood
Advocate High Court
Stationed at DIKhan

①

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES TRIBUNAL,
PESHAWAR

Service Appeal No. /2024

Shehnla Shaheen Daughter Of Rafiqullah R/O Mohallah Ghari Saddozai DIKhan
Physical education teacher Education Department DIKhan.

.....*APPELLANT*

VERSUS

1. District Education Officer (F) DIKhan.
2. Deputy District Education Officer (F) DIKhan.

.....*Respondents*

SERVICE APPEAL U/S 4 OF KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL ACT 1974

PRAYER:

ON ACCEPTANCE OF THE INSTANT SERVICE APPEAL, THE OFFICIAL REPENDENTS MAY KINDLY BE DIRECTED TO ACT IN ACCORDANCE WITH LAW AND ASSIGN THE DUTIES TO APPELLANT AND ALSO RELEASE THE SALARIES OF APPELLANT WITH ALL BACK BENEFITS WHICH ARE ILLEGALLY STOPPED BY THE RESPONDENTS.

Note: The addresses of the parties given above are sufficient for the purpose of services.

Respectfully Sheweth,

Appellant through council humbly submits as under.

1. That the appellant is permanently residing at District Dera Ismail Khan and was appointed as Physical Education Teacher (BS-15) in Govt Girls Middle School Lunda Sharif DIKhan vide order No 1313-24/DEO(F)/Estt: (S)/NTS2017 dated 25/01/2019 and subsequently assumed the charge on 25/01/2019. The copy of appointment order and charge report are annexed as **A & B**.
2. That Appellant was performing her duty in the department to the entire satisfaction of his superiors since her appointment and due to some severe domestic problem, applied for one year extra ordinary leave vide application dated 31-08-2020 through proper channel vide diary number 33 dated 31-08-2020 which was duly forwarded to Honorable Deputy DEO (F) vide dated 30/09/2020. Copy of the same are annexed as **Annexure C**.
3. That appellant submitted another leave application for another two years vide application dated 23-08-2021. Copy of the same is annexed as **Annexure D**.

- (2)
4. That appellant went for arrival at Govt Girls Middle School Lunda Sharif after completion of two-year leaves. The then headmistress refused to accept arrival saying that another PET has been working in place of appellant and directed the appellant to approach DEO regarding this matter and in response to this appellant submitted application to Deputy DEO (F) dated 02-09-2023 for further posting. Copy of the same is Annexed as **Annexure E**.
 5. That the respondents remained reluctant to assign the duties to the appellant and in spite of assigning her duties, respondent No 2 stopped her pay from November 2023 and this fact was revealed to us in the month of December 2023.
 6. That aggrieved of stoppage of salaries and non-assigning the duties, the appellant preferred departmental appeal dated 28/12/2023 to respondent No 1 (**Annexure F**) which is not decided by the appellant authority within stipulated period, hence, the appellant does not have any other remedy except to invoke the jurisdiction of this Honorable Tribunal by way of instant service appeal inter alia the following grounds.

GROUND:

- i. That the impugned act of respondents and the non-decision of appellant's departmental appeal is the outcome of mala-fide, without jurisdiction, without lawful authority and having no binding effect upon rights of appellant.
- ii. That the act/refusal/omission on the part of respondent is not grounded in reason nor does it smack of sensible or sane approach which is bad in law and circumstance in the present case.
- iii. That appellant is serving the department and performed her duties as per wishes of high ups which was acknowledged by respondents in black and white.
- iv. That the appellant was neither assigned duties nor being paid salary that tantamount to financial strangulation of appellant and her all-dependents children / family.
- v. That the counsel for appellant may be allowed to raise additional grounds at the time of arguments.

It is therefore, humbly prayed that on acceptance of instant service appeal, the respondents may kindly be directed to act in accordance with law and assign the duties to appellant and also release the salaries of appellant with all back benefits which are illegally stopped by the respondents.

Dated: 2/04/2024

Appellant

Through Counsel

Khalid Mahmood

Advocate High Court

Stationed At DIKhan

Handwritten signature and initials

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES TRIBUNAL,
PESHAWAR

3

Service Appeal No. /2024

Shehnila Shaheen Daughter Of Rafiqullah R/O Mohallah Ghari Saddozai
DIKhan Physical education teacher Education Department DIKhan.

.....**APPELLANT**

VERSUS

1. District Education Officer (F) DIKhan.
2. Deputy District Education Officer (F) DIKhan.

.....**Respondents**

AFFIDAVIT

I, Shehnila Shaheen Daughter Of Rafiqullah, Physical Education Teacher in Education Department DIKhan appellant do hereby solemnly affirm and declare on oath that all the Para-wise contents of this appeal are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed deliberately from this Honorable Court.

Deponent

Shehnila
7

12101-0569138-4

Identified by Counsel

Khalid Mahmood

Advocate High Court



(4)

**BEFORE THE HONORABLE SERVICE TRIBUNAL,
KHYBER PAKHTUNKHWA**

CM Petition No. _____/2024

in

Service Appeal No. _____ of 2024

MstShehnila Shaheen VS. District Education Officer (F) etc.

**APPLICATION WITH THE REQUEST TO RELEASE THE SALARIES
OF CURRENT MONTH, TILL FINAL DECISION OF SERVICE APPEAL
AND IN THE MEANWHILE, RESPONDENTS MAY ALSO BE
ABSATINED FROM TAKING ANY ACTION DETRIMENTAL TO THE
SERVICE CAREER OF THE APPELLANT.**

Respectfully Sheweth,

1. That a service appeal is being filed before this Tribunal and the grounds of same may please be considered as an integral part of the subject petition.
2. That the appellant has got a good prima facie case on law as well as on facts and there is every likelihood of the success of the service appeal. Hence balance of convenience tilts in favor of appellant.
3. That the impugned act of respondents is illegal and without jurisdiction therefore in case of non-granting interim relief prayed for, the appellant will suffer an irreparable loss.

It is, therefore, humbly prayed that on acceptance of the present cm petition, the respondents may be directed to release the salaries of current month, till final decision of service appeal and in the meanwhile, respondents may also be absatined from taking any action detrimental to the service career of the appellant.

Yours Humble Appellant

SH Shaheen

MstShehnila Shaheen

Through Counsel

Khalid Mahmood

**Khalid Mahmood,
Advocate High Court
Stationed at DIKhan**

Dated: 2/04/2024

BEFORE THE HONORABLE SERVICE TRIBUNAL,
KHYBER PAKHTUNKHWA

5

CM Petition No. _____/2024

in


Service Appeal No. _____ of 2024

MstShehnila Shaheen VS. District Education Officer (F) etc.

AFFIDAVIT

I, Shehnila Shaheen Daughter Of Rafiqullah, Physical education teacher Education Department DI Khan appellant do hereby solemnly affirm and declare on oath that all the Para-wise contents of this appeal are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed deliberately from this Honorable Court.


Identified by Counsel



Khalid Mahmood


Advocate High Court

Deponent



7

12/01-0569138-4





OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE) DERA ISMAIL KHAN

Phone No. 0966-9280133

6

APPOINTMENT ORDER :

Amr A

Consequent upon recommendation of the Departmental Selection Committee, appointment of the following candidates are hereby ordered against the post of **PHYSICAL EDUCATION TEACHER** Female school based, in BPS-15 (16120-1320-56020) @Rs.16120/- fixed plus usual allowances as admissible under the rules on adhoc basis on Contract under the existing policy of the provincial Government, in teaching Cadre on the terms and conditions given below with effect from the date of their taking over charge.

S.NO	ROLL NO	NAME	FATHER NAME	CNIC	D.O.B	SCORE	PLACE OF POSTING
01	1728000999	SANIA KHAN	MOHAMMAD JAHANGIR KHAN	12101-3602612-4	15/09/1995	135.19	GGMS, SINGHR
02	1728001126	SHEHNILA SHAHEEN	RAFIQ ULLAH	12101-0569138-4	30/09/1994	131.02	GGMS, LUNDA SHARIF
03	1728000898	KIRAN BATOOL	TARIQ PARVEEZ	12101-9719895-6	30/03/1988	130.07	GGHS, HATHALA
04	1728000977	UMARA REHMAN	ABDUR REHMAN	12101-3707387-6	28/03/1992	128.98	GGHS, BORDA

TERMS AND CONDITIONS :

1. NO TA/DA etc is allowed/
2. Charge report should be submitted to all concerned in duplicate.
3. Appointment is purely on temporary and contract basis initially for one year from the date of issuance.
4. She should not be handed over charge if she exceeds 35 years or below 18 years of age. Age relaxation case may be submitted to competent authority (if required). Appointment is subject to the condition that the certificate/documents must be verified from the concerned authorities by the DEO, anyone found producing bogus Certificate will be reported to the law enforcing agencies for further action Expenditure on verification will be borne by the appointees.
5. Her services are liable to termination on one month's notice from either side. In case of resignation without notice her one-month pay/allowances shall be forfeited to the Government.
6. Pay will not be drawn until and unless a certificate regarding verification of her documents is issued by this office.
7. She should join her post within 10 days of the issuance of this notification. In case of failure to join the post within stipulated period, her appointment will stand expired automatically and no subsequent appeal etc shall be entertained.
8. Health and Age Certificate should be produced from the Medical Superintendent concerned before taking over charge.
9. Before handing over charge, she will have to sign an agreement with the Department otherwise this order will not be valid.
10. She will be governed by such rules and regulations as may be issued from time to time by the government.

ATTESTED
KHALID MEHTA
Advocate High
Stationed at D.I.K.

11. Her services shall be terminated at any time, in case her performance is found unsatisfactory during her contract period. In case of misconduct, she shall be proceeded under the rules farmed from time to time.

7

12. Her appointment is made on school base, She will have to serve at the place of posting, and her service is not transferable to any other station.

13. Before handing over charge, once again their documents may be checked by DDO concerned, if they have not required relevant qualifications as per rules or in case of any degree/certificate issued after December 20 2017, against which she claimed score fro merit they may not be handed over charge of the post.

Sd/-

(SYEDA ANJUM)
DISTRICT EDUCATION OFFICER
FEMALE DERA ISMAIL KHAN

Enclst No. 1313-24 /DEO(F)/Estt:(S)/NTS 2017 Dated DIKhan the 25/01/2019.

Copy forwarded to:

01. The Director, E&SE Khyber Pakhtunkhwa Peshawar
02. The PS to the Secretary to Govt. Khyber Pakhtunkhwa E&SE Department.
03. The District Comptroller of Accounts, Dera Ismail Khan.
04. PA to DEO (F) DIKhan.
05. The Principal, Head Mistress concerned.
06. Accountant Local Middle Female section DIKhan.
07. The Candidates concerned.
08. Master file.

ATTESTED

KHALID MEHMOOD
Advocate High Court
Stationed at D.I.Khan

DISTRICT EDUCATION OFFICER
FEMALE DERA ISMAIL KHAN

Annex (B)

(8)

چارچرپورٹ

بیمہ شہید شہداء حسین زکی حالی پوسٹ

26.01.2019 قبل بعد از دوپہر بموجب حکم نمبری 1313-24

25.01.2019 آمدہ از دفتر D.F.O (Female) D.I. Khan

تبدیل ہے۔ P.F.T پوسٹ کا چارج سنبھال لیا ہے۔

نظام لعدہ اشرفی گورنمنٹ گھنٹہ گزرنہ ڈیول سکول لڑکا اشرفی

26.01.2019

اللہ

چارچر گھنٹہ

Schrisht Sabir
HEAD MISTRESS
Govt. Girl Middle School
Lunda Shami

ATTESTED

KHALID MEHMOOD
Advocate High Court
Stationed at D.I. Khan

The District Education officer (Female)
Dera Ismail Khan.

9
Annex C

Through Proper channel

Subject: Extra ordinary leave

Respected madam

with due reverence it is stated that I am unable to perform my duty due to some severe domestic problems. It is therefore requested that kindly grant me one year extra ordinary leave (without pay) with effect from 01-September-2020 to 30-~~Sept~~ 2021. I shall be very thankful to you.

Sincerely yours
Shehnila Shaheen
PET GGMS Lunda Sharif D.I.Khan

DA
PET Put up in file
originals/Bak round
3/9/2020
of the pet
Forwarded to Dy:DEO (F) for further action

Shehnila Shaheen
HEAD MISTRESS
Govt. Girl Middle School
Lunda Sharif Dera Ismail Khan

D/N : 33

ATTESTED
KHALID NEEZ MOOD
Advocate High Court
Stationed at D.I. Khan

حضرت صاحب محترم گٹ ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر اور دیگر اراکین و ممبران
صداق عالیہ

مفود نامہ التماس ہے کہ میں سناٹم سوسائٹی سٹاڈنٹس ایسوسی ایشن کی گورنمنٹ
گورنرز عدل سکول لنڈہ شریف کو گورنرز عدل کی وجہ سے مزید
دو سال کی تحفظی حکم ستمبر 2021 سے 31 اگست 2023
تک انتہائی استدعا ضرورت ہے کہ ایذا گزاریں نہ کہ غیر بااثری فرما
کر سناٹم کو مطلوبہ تحفظی عینیت عواما دین سے اظہار ہمیشہ آپکی مستور و مکتون
رہنے لگی۔

الصارحہ
#Khalid
23/08/21

آپکی بالاعداد سوسائٹی سٹاڈنٹس ایسوسی ایشن کی گورنمنٹ گورنرز عدل سکول لنڈہ شریف
صدر نامہ 23/08/21

ATTESTED
KHALID M. KHAN
Advocate High Court
Stationer of Bahawalpur



Anex

(E)

(11)

خدمت جناب ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زمانہ صاحبہ ڈیڑھ اسماعیل خان

جناب عالیہ

محور نامہ التماس ہے کہ عروبہ سٹیبلشمنٹ ایچ۔ پی۔ ای۔ سی گورنمنٹ گریڈر
 مڈل سکول لڈوہ شریف کی (پی۔ ڈی) گئی درخواستوں کے مطابق عدالت تعیناتی
 31 اگست 2023 کو پوری ہو چکی۔ نام متعلقہ سکول گورنمنٹ گریڈر مڈل
 سکول لڈوہ شریف Arrival ہے۔ یہ درخواست تو پیڈسٹریس صاحبہ نے ہم
 آپ کو سائننگ کی قبول نہ کی کہ یہاں اور PET تصدیقات کر دی گئی
 ہے جسکی وجہ سے آپ DEO اسرار ایفم کریں۔ لہذا گزارش ہے
 کہ سائننگ کو پیس آف یوسٹس حمایت عروبا دیں آگلی مہینہ نواریں ہوگی

الکھارون

M. Khaila
26/09/23

آگلی خواہر دار سٹیبلشمنٹ ایچ۔ پی۔ ای۔ سی گورنمنٹ گریڈر مڈل سکول لڈوہ شریف
 مورخہ 02/09/23

ATTESTED
 KHALID MOHAMMAD
 Advocate High Court
 Stationed at D.I. Khan



بجود صاحب داد و ثنا اور جس آئینہ زانہ صلح ذریعہ اس میں خان
معاون در خواست رائے پوسٹنگ آرڈر و خلاصہ میں تنخواہ

صاحب عالیہ! Auep (F)

تذکرہ میں صفحہ نمبر ۱۶-۲۵-۰۷ کو گورنمنٹ رزروڈل
سکول لکندہ میں پروفیسر PET کی پوسٹنگ پر اہلیت ہوئی۔ اور ۲۶/۱۹
کو ایسی پوسٹنگ کا جائزہ سنبھال رہا۔

در آرڈر کاپی + حصار علیہ پوسٹنگ لکھی ہے
فی سائل نمبر ۲۵-۰۸-۰۳۱ نے گورنمنٹ مسائل کو پی کے اے میں دستاویز
کے "EJC" رخصت اچھی تھی کیلئے درخواست ہے از دفتر ہڈائی (کاپی لکھی ہے)
تاہم ایک سال تک ہونے کے بعد فی سائل کے گورنمنٹ مسائل و مسائل جون سائلوں
رہے۔ جس سے فی سائل نمبر ۲۱-۰۸-۰۳۱ کو دوبارہ (۲) سال کے لیے
رخصت اچھی تھی کیلئے کے لیے دفتر ہڈائی درخواست ہے کرائی۔ (کاپی لکھی ہے)

فزیوڈرائی فی سائل رخصت تھی ہونے کے بعد فی سائل نمبر ۱۱ نے سکول حاضری
کی فرض سے وجوع کیا تو متعلقہ سکول ہیڈر اس نے یہ بات استفسار کی کہ
آئیے گلہ نہی PET کام کر رہی ہے اس لیے آئیے پوسٹنگ خالی نہیں ہے۔ جب تک کہ
فی سائل نمبر ۲۱-۰۸-۰۳۱ آئیے کے واقعہ کیا اور عرضی جمع کرائی (لکھی ہے)
عدلہ آئیے فی سائل کو اندر سنبھال کر آرڈر پوسٹنگ آرڈر نمونہ کے بلکہ فی
سائل نمبر ۱۱ یا پورا تنخواہ رائے نومبر ۲۰۰۳ جو کہ تکمیل (۱) دیکھ کر کو آئیے تہی
ہوئے ہے فی سائل نمبر دوبارہ آئیے (۲) کے واقعہ کیا گیا ہے کوئی
پیمانہ حال نہیں ہو سکا۔

ATTESTED
KHALID MEHMOOD
Advocate High Court
Stationed at D.I. Khan

لکھنؤ فی سائل التجاری ہے کہ آئیے کسی بھی دورے میں
سکول PET کی خالی پوسٹنگ پوسٹنگ دی جاوے اور فی سائل کی یا پورا تنخواہ
صاری کرنے کے امکانات صادر نمونہ جاری ہیں

نیدی مہمون دستاویز ہے
شہینہ شاہین PET گورنمنٹ رزروڈل سکول لکندہ میں فیصل بریو صلح ذریعہ
۲۹/۱۲/۲۰۱۳

۲۹/۱۲/۲۰۱۳
اسم کوئی

درج ذیل کے مسائل پر جواب دیجئے
 1. اگر ایک شخص نے 2008-09 کے مالی سال میں اپنے
 کے لئے ایک ریٹائرمنٹ فنڈ میں رقم جمع کروائی (مثلاً 100000 روپے)
 تاہم اسی سال میں اس نے اپنے لئے 50000 روپے جو کہ
 اسے جسے وہ اپنے لئے 2008-09 کے دوبارہ (2) سال کے
 ریٹائرمنٹ فنڈ میں جمع کروا رہا ہے۔ (مثلاً 100000 روپے)
 تو اس کے لئے ریٹائرمنٹ فنڈ میں جمع کروانے والے 50000 روپے
 کی طرف سے جو کہ ایک ریٹائرمنٹ فنڈ میں جمع کروائے گئے
 ان کے لئے کسی ٹیکس کا کوئی اثر ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں
 اس کے لئے (1) ریٹائرمنٹ فنڈ میں جمع کروانے والے
 50000 روپے کی طرف سے جو کہ ایک ریٹائرمنٹ فنڈ میں
 جمع کروائے گئے ان کے لئے کسی ٹیکس کا کوئی اثر
 نہیں ہے۔ (2) ریٹائرمنٹ فنڈ میں جمع کروانے
 والے 100000 روپے کی طرف سے جو کہ ایک ریٹائرمنٹ
 فنڈ میں جمع کروائے گئے ان کے لئے کسی ٹیکس کا کوئی
 اثر نہیں ہے۔

لکھنؤ کے صدر البتاری نے کہا ہے کہ کسی بھی مدرسے میں
 سکول کے لئے کسی ریٹائرمنٹ فنڈ میں جمع کروانے والے
 رقم کے لئے کسی ٹیکس کا کوئی اثر نہیں ہے۔

سیدی بیگم کی طرف سے

سیدی بیگم کی طرف سے

Collection Office
 (Female) D.I. Khan



وکالت نامہ

14

KHALID MEHMOOD

Advocate
bc-15-5415

Date of issue: November 2022

Valid upto: November 2025



Secretary
KP Bar Council

کورٹ
فیس

بجالات
صاحب خیر محمد خواجہ سروسز پرائیویٹ لٹڈ
منجانب
شہینالستہ ہنی نام کو رضیت
سروسز پرائیویٹ لٹڈ
دعوی یا جرم
تفصیل دعوی یا جرم

باعث تخریر آنکہ
مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں ان طرف واسطے بیرونی جواب دہی برائے پیشی یا تصفیہ مقدمہ نام
خالدی محمد سروسز پرائیویٹ لٹڈ

کو حسب ذیل شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے کہ میں پیشی پر خود یا بذریعہ دوسرے عدالت حاضر ہوتا ہوں گا اور ہر وقت پتارے جانے مقدمہ وکیل صاحب موصوف کو اطلاع دے کر حاضر عدالت کروں گا اگر پیشی پر مظہر حاضر نہ ہو اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور میرے خلاف ہو گیا تو صاحب موصوف اس کے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے اور مقدمہ صدر پکھری کے علاوہ اور جگہ سماعت ہونے یا بروز تعطیل یا پکھری کے اوقات کے آگے یا پیچھے پیش ہونے پر مظہر کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اسکے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا محنت نہ واپس کرنے کے بھی صاحب موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔
کوکل ساختہ پر داخستہ صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور قبول ہو گا اور صاحب موصوف کو عرض دعویٰ یا جواب دعویٰ یا درخواست اجراء ایسی کرنی نظر ثانی اپیل گمرانی و ہر قسم درخواست ہر قسم کے بیان دینے اور پر چالشی یا راضی نامہ و فیصلہ بر حلف کرنے اقبال دعویٰ کا بھی اختیار ہو گا اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیشی مقدمہ مندرجہ مذکور بیرون از پکھری صدر بیرونی مقدمہ مرکز نظر ثانی اپیل و گمرانی و برآمدگی مقدمہ یا مستوفی ذمہ داری کی طرف یا درخواست حکم انتہائی یا ترقی یا گرفتاری مثل از فیصلہ اجراء ذمہ داری بھی صاحب موصوف کو بشرط ادا کی جلیغہ مختصم بیرونی کا اختیار ہو گا اور تمام ساختہ پر داخستہ صاحب موصوف مثل کردہ از خود منظور و قبول ہو گا اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہو کہ مقدمہ مذکورہ یا اس کے کسی جزو کی کارروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی اپیل گمرانی یا دیگر معاملہ و مقدمہ مذکورہ کسی دوسرے وکیل یا مدد سڑ کو اپنے بجائے یا اپنے ہمراہ مقرر کریں اور ایسے شیر قانون کو بھی ہر امر میں دہی اور دینے اختیارات حاصل ہوں گے جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جانہ التواء پڑے گا وہ صاحب موصوف کا حق ہو گا نیز صاحب موصوف کو پوری فیس تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کروں گا تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہو گا کہ مقدمہ کی پوری نہ کریں اور ایسی صورت میں میرا کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ہے تاکہ سند رہے
مورخہ 2
ماہ اپریل 2024
مضمون وکالت نامہ من لیا ہے اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے

Accepted
03364330001

شہینالستہ ہنی
(امین)